

# تفسير احمد

سُورَةُ الْعَصْرِ  
Ketabton.com

جزء - 30

سوره «العصر» کا تفسیر و ترجمہ

تصنيف: امين الدين « سعیدی - سعيد افغانی »

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### سورة العصر

#### جزء (30)

سورہ عصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ، اس کی تین آیتیں ہیں

#### وجه تسمیہ:

اس سورت کا "العصر" نام کیوں رکھا گیا، تمام مفسرین کا جواب یہ ہے کہ: چونکہ ہمارے پروردگار نے اس کے شروع میں "العصر" کی قسم کھائی ہے ، زمانہ میں بہت سی مختلف اور متضاد شامل ہیں، جیسے: خوشی ، غم ، صحت ، بیماری ، دولت ، فقر ، اسی طرح زمانہ، مہینے ، دن ، گھنٹے ، منٹ اور سیکنڈ جیسے حصوں میں زمانہ تقسیم کیا گیا ہے۔

#### سورہ عصر کی آیات، الفاظ اور حروف کی تعداد

سورہ عصر مکی سورتوں میں سے ہے، جس کا ایک (۱) رکوع ، تین (۳) آیتیں ، چودہ (۱۳) الفاظ ، چوبتر (۴۲) حروف اور اکیس (۲۱) نقطے ہیں۔ (سورتوں کے حروف کی تعداد میں علماء کی آراء مختلف ہیں، اس بحث کی تفصیل کے لیے تفسیر احمد سورة الطور ملاحظہ کریں)

#### سورہ عصر کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ کے اصحاب میں سے دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی آپس میں ملتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے یہاں تک کہ سورہ عصر ایک دوسرے پر تلاوت نہ کر لیں ، (رواہ الطبرانی) امام شافعی فرماتے ہیں کہ: اگر لوگ صرف اس سورت میں غور و فکر اور تدبیر کریں ، تو ان کے لیے کافی ہے (ابن کثیر) اس طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ: مسلمان ہونے سے پہلے عمرو بن عاص مشرکین قریش کی طرف مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ، تو مسیلمہ نے اس سے پوچھا : کہ اس دوران تمہارے دوست پر کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ عمرو بن عاص نے اس کے جواب میں کہا: ان پر ایک مختصر لیکن بہت بلیغ سورت نازل ہوئی ہے، مسیلمہ نے کہا: وہ سورت کیا ہے؟ عمرو بن عاص نے سورہ عصر پڑھی، "وَالْعَصْرِ ۱۰ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۲۰ ۱۱ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۱۲ وَتَوٰصَوْا بِالْحَقِّ ۱۳ وَتَوٰصَوْا بِالصَّبْرِ ۱۴" ۱۵

مسیلمہ کذاب اس سورت کو سننے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گیا، تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھایا اور کہا : مجھ پر یہی وحی نازل ہوئی ہے، عمرو بن

عاص نے اس سے کہا: کیا تم اسے میرے لیے پڑھ سکتے ہو؟ مسیلمہ کذاب نے پڑھنا شروع کیا: "یاوبر، یاوبر وائمانت ازنان و صدر و سائرک ہقر تفر"

اے وبر، اے وبر، اور تم دو کان اور ایک سینہ کے سوا کچھ نہیں ہو، کیونکہ تمہارے دوسرے اعضاء گڑھے اور کھوکھلے ہیں، پھر عمرو کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ عمرو تم نے یہ سورہ جو مجھ پر نازل ہوئی اسے کیسا پایا؟ عمرو نے کہا: خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، ابن کثیر کہتے ہیں: مسیلمہ کذاب ان فریبوں کے ذریعے قرآن کی مخالفت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بت پرستوں کو بھی قائل نہ کر سکا، امام شافعیؒ سورہ عصر کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرماتے ہیں، "اگر تمام لوگ اس سورت میں غورو تدبر کریں تو یہ سورت سب کے لیے کافی ہے۔" نیز امام شافعیؒ مزید فرماتے ہیں: اگر اس سورت کے علاوہ کوئی دوسری سورت نازل نہ ہوتی تو یقیناً لوگوں کے لیے یہی کافی ہوتی، کیونکہ اس سورت میں تمام علوم قرآن شامل ہیں۔

سورہ عصر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ قرآن عظیم کی بہت مختصر سی سورت ہے، لیکن یہ اس قدر جامع ہے کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ اس کے معانی و تشریحات کے ساتھ پڑھیں تو یہ سورت ان کے دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہے۔ اس سورت میں اس بات پر بحث کی گئی ہے کہ تمام انسان خسارے اور نقصان میں ہیں، اس سورہ میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انسان اس نقصان سے صرف اس وقت بچ سکتا ہے کہ جب اس میں درج ذیل خصوصیات ہوں، ایمان اور عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرنا۔

انسان اور انسانی معاشرہ تباہی و بربادی سے اس وقت بچ سکے گا، جب وہ ایمان کی راہ پر گامزن ہوگا، اس کا ایمان اور یقین اس کے صالح عمل اور اچھی کارکردگی سے ظاہر ہوگا، اور جب وہ حق پر کاربند ہوگا، دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی دعوت دے گا، اور ایمان کی صف میں آگے بڑھنے، اعمال صالح کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی مشکلات کو برداشت کرے گا، اور صبر اختیار کرے گا، آدھے راستے کا ساتھی نہ ہو، اور دنیا کے مصالح و منافع اور مراتب کی وجہ سے دائیں بائیں طرف منحرف نہ ہو، اور وہ اپنی جدوجہد کے راستے میں تھکاوٹ محسوس نہ کرتا ہو، اور دوسروں کو اپنے قول و فعل سے صبر کرنے کی دعوت دیتا ہو اور خود بھی صبر و تحمل کا نمونہ بنے۔

## سورہ عصر کے پیغامات

- 1 - انسانی تاریخ کا دور قیمتی ہے اسی لیے خدا نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کی عبرتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے: "وَالْعَصْرِ".
- 2 - انسان ہر طرف سے خسارے میں ہے "لَفِي خُسْرٍ".
- 3 - جو شخص انبیا کی تربیت کے دائرے میں نہ ہو وہ نقصان میں ہے، "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ".
- 4 - نقصان سے بچنے کا واحد طریقہ ایمان اور عمل ہے: "آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ".
- 5 - صرف اپنے بارے میں سوچنا کافی نہیں ہے، مؤمن دوسروں کی ترقی اور کامیابی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، "تواصوا بالحق".
- 6 - صبر کی تلقین اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ حق کا حکم، "بالحق وبالصبر".
- 7 - ایمان عمل سے پہلے ہے، اسی طرح خود کی اصلاح معاشرے کی اصلاح پر مقدم ہے، "آمَنُوا وَعَمِلُوا... وتواصوا".
- 8 - ایمان اور عمل صالح اور دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کے بغیر انسان کا نقصان بہت بڑا ہے، "لَفِي خُسْرٍ" "خسر" کا نکرہ ہونا، یعنی اس پر تنوین نقصان کے زیادہ بڑا ہونے کی علامت ہے۔
- 9 - حق کو قائم کرنے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے، "تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر".
- 10 - معاشرہ کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے، جب تمام لوگ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے میں شریک ہوں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہوں اور خود بھی نصیحت قبول کرتے ہوں، "تواصوا بلحق" (لفظ "تواصوا" تفاعل کے باب سے ہے دو طرف کے لیے ہوتا ہے)۔
- 11 - نقصان سے نجات اس وقت ممکن ہے جب انسان تمام اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ وہ ان تمام میں کامیاب نہیں ہوتا، "عملوا الصالحات" لفظ "الصالحات" جمع کی صورت میں الف لام کے ساتھ آیا ہے۔

**12 - ایمان کو جامع ہونا چاہیے، جزوی نہیں، دین کے تمام حصوں پر ایمان** ، نہ کہ بعض اجزا پر "الذین آمنو" (ایمان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے تا کہ تمام مقدسات کو شامل ہو)

### اس سورت کے عمومی مضامین

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اس سورت کی جامعیت ایسی ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک اس مختصر سی سورت میں قرآن کے تمام علوم اور مقاصد کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اس کا آغاز "عصر" کے معنی خیز قسم، اور پھر تمام انسانوں کے خسارے میں ہونے کے ذکر سے ہوتا ہے، جو ان کی تدریجی زندگی کی طبیعت میں شامل ہے، اس کے بعد صرف ایک گروہ کو اس عمومی اصول سے الگ اور خارج کر دیتی ہے، جو ان چار نکات کا حامل گروہ: "(۱) ایمان، (۲) عمل صالح، (۳) ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، (۴) اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں" یہ چاروں اصول حقیقت میں اسلام کے عقیدہ، عمل، انفرادی اور اجتماعی پہلو پر مشتمل ہیں۔

"ایمان" محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک جامع اور مکمل تشریح اور تفصیل ہے، ایمان ایک ایسا یقین ہے جو انسان کی زندگی کو سمت دیتا ہے، اور یہ کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے اس میں ایمان اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ لوگوں کے خیالات اور اعمال کی قدر کرنے کا محور ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ "ایمان" کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے بعد "عمل" کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ یہ بات لوگوں کے مد نظر رہے کہ عمل میں ایمان کے مظہر کی نشاندہی ہو۔

لہذا زبانی یا عقیدہ پر ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہے، جب تک ہم جس پر یقین رکھتے ہیں اس کے لوازم کے پابند نہ ہوں، اور اس کے اثرات کو قبول نہ کریں، فوائد کو سمجھنے کے نتیجے میں ایمان اس وقت مفید ہوتا ہے، جب انسان جو کچھ بولتا ہے اس پر دل سے بھی رکھتا ہو، اور اس چیز پر کہ جس کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے عمل کرے، اسی لیے نہ تو صرف زبانی ایمان کافی ہے، نہ صرف دل کا یقین، بلکہ ایمان کے ثمرات عمل میں نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان انسانی جسمانی صحت کو بھی بہتر بنا تا ہے، اور یہ انسان کے قلبی ضروریات میں سے بھی ایک ہے، اللہ پر ایمان انسان کے دماغ اور روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، انسانی زندگی ہمیشہ مسائل، اتار چڑھاؤ اور رکاوٹوں سے بھری رہتی ہے، روحانی سکون کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے وہ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آسانی سے

کر سکتا ہے، وہ ذہنی مسائل کو مکمل طور پر خود سے دور کر سکتا ہے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں زیادہ مضبوطی سے چل سکتا ہے، اس وجہ سے، اگر آپ نے غور کیا ہو تو، وہ لوگ جو دماغی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کے کمزور اور بے عمل ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ "آیت ۶۲" میں اللہ پر ایمان لانے والوں کے سکون کے بارے میں فرماتا ہے: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ" ترجمہ: جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا.... ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے)

**1 -** جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو لامتناہی طاقت کا مالک اور اپنا دوست اور مددگار سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رب نے سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۷ میں وعدہ فرمایا ہے: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا" ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (اللہ تعالیٰ مؤمنوں کا مددگار ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔)

**2 -** جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ (سورہ طلاق کی آیت: ۳ میں فرماتے ہیں، "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے)

**3 -** جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے معاملات اور اپنے اعمال اور اپنے کام کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور اگر وہ کام مطلوبہ نتیجہ تک نہیں پہنچتا تو انہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کا دوست اور مددگار ہے، اس کام کو ان کے لیے خیر نہیں سمجھتا، اس لیے وہ پھر بھی مطمئن رہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا عمل اور کام نتیجہ خیز نہیں ہوا، لیکن کوئی نقصان بھی ان کو نہیں پہنچا، شاید کہ اللہ اس معاملے کو اس کے فائدے میں نہیں سمجھتا تھا۔

**4 -** جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے فیصلوں پر مطمئن رہتے ہیں۔

**5 -** جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔

**6 -** خدا پر ایمان کے اثراتے میں سے ایک تخلیق اور وجود کی دنیا کے بارے میں رجائیت ہے یعنی دنیا میں ہمیشہ پر امید رہنا، ایمان دنیا کے بارے میں انسان کے تصور کو اس طرح ایک خاص مثبت شکل دیتا ہے کہ دنیا کی تخلیق با مقصد ہے اور مقصد نیکی اور ارتقاء اور خوشبختی کی طرف لیجاتا ہے۔

7- ایمان والا شخص پر امید ہونے کی وجہ سے صاف دل کی روشنی میں اپنی کوششوں کے مطلوبہ نتائج کی امید رکھتا ہے۔

8- ایمان والے شخص کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے دنیا اس کی کوششوں سے لاتعلق نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ان لوگوں کی حامی اور موید ہوتی ہے جو سچائی، راستی، انصاف اور احسان کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں: " اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ " (سورہ محمد: ۷) ترجمہ: اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ " اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ " (سورہ توبہ: ۱۲۰) ترجمہ: "نیک لوگوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا" ایمان والا شخص خدا کی مدد اور زندگی کے بحرانوں میں امید رکھتا ہے، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ خدا کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور خدا سے یہ امید اضطراب کو ختم کرتی ہے۔

خدا پر ایمان کا ایک اور بابرکت اثر اپنے کام میں بامقصد ہونا ہے، کیونکہ مؤمن جانتا ہے کہ اس کی ذات خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ حکمت والا خدا اسے دنیا میں لایا ہے، اور اسے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو کہ خدا کی عبادت اور بندگی اور زمین پر خدا کا جانشین ہونا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے اعمال اور الفاظ کے لیے جوابدہ ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس سے پہلے کہ یوم حساب آئے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے جینے کے لیے کام کرنا ہے نہ کہ کام کرنے کے لیے جینا ہے، چونکہ حساب و کتاب آنے والا ہے اور ایک دن عقلمند اور بے وقوف بڑے، چھوٹے سے پوچھا جائے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ زندگی کے تمام مراحل میں محتاط اور چوکنا رہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کل رب کے سامنے پیشی پر شرمندہ ہو۔

جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دنیا کی ہر چیز کا معاملہ ایمانداروں سے کرتا ہے، اس لیے اسے کس چیز کا ڈر ہوگا؟ ایک مؤمن ہمیشہ اپنے آپ کو معزز اور باوقار سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس ہستی سے جڑا ہے جس کے تابع سارا جہاں ہے۔ قرآن کی آیات میں "عزت" کا لفظ مؤمن کے لیے استعمال ہوا ہے، وقار اور عزت روح کی ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے وہ روح خود کو برتر سمجھتی ہے، ڈرتا وہ ہے؟ جو خود کو شکست خوردہ سمجھتا ہے، جب وہ روح کی قوتوں سے شکست کھا جاتا ہے جو اندرونی دشمن ہیں، تو پھر بیرونی دشمنوں سے بھی ڈرتا ہے۔

وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں اعلیٰ نظم و ضبط رکھتا ہے، وہ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے خدا

کی عبادت میں استعمال کرتا ہے، اور زندگی کے لمحات کو زیادہ فائدہ اٹھانے اور اعمال صالحہ کے انجام دینے میں تیزی لانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کو منظم کرنے میں بہت مستعد رہتا ہے، وہ اپنے عظیم مقاصد کے حصول کے راستے میں کوئی لمحہ اور موقع نہیں چھوڑتا، اور وہ اپنے اوقات کی منصوبہ بندی پر توجہ دیتا ہے۔

جو شخص خالص خدا پر یقین رکھتا ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ اس دنیا کے علاوہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور اس کے مطابق اپنے تمام اعمال اور طرز عمل کو ترتیب دیتا ہے، اللہ پر یقین انسان میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، اور کڑواہٹ کو میٹھا بنا تا ہے۔

جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ خدا کی خاطر اور نافرمانی اور گناہ کے سنگین نتائج کے خوف سے احتیاط سے کام لیتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے خدا اور خدا کے بندے ناراض ہوں، اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ نہیں کرتا وہ بھی خدا کے لیے ہوتا ہے اور وہ خدا اور رسول کے دین اور حکم سے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لیتا ہے۔

### سورہ "عصر" کی تفسیر کا خلاصہ

عام طور پر سورہ عصر کی تفسیر کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے: مجھے قسم ہے اس زمانے کی جس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ انسان اپنی زندگی ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیکیاں کرتے رہے، یہ ان کی ذات کی تکمیل ہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی اور صبر کرنے کی تلقین کی، یہ دوسروں کی تکمیل ہے، اس لیے کہ جو لوگ یہ کمال خود حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی مکمل کرتے ہیں، ایسے لوگ نقصان میں واقع نہیں ہوتے، بلکہ فائدے میں ہیں۔

**محترم قارئین:** سورت میں جس بنیادی، عملی اور معجزہ نما نکتہ پر بحث کی گئی ہے، اور وہ نکتہ کہ ہر مؤمن مسلمان کو اس پہ گہری نظر رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کو خسارے اور نقصان سے بچانے والی چار صفات ہیں: "ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت"۔

یہ سورت ہم انسانوں کو سکھاتی ہے کہ ایک شخص سچی اور حقیقی نجات تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ راست بازی کے یہ چار عناصر خود جمع کر لے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو کسی بھی وجہ یا دنیاوی مصلحت کی وجہ سے نظر انداز کرے اور اسے غیر اہم سمجھے، یا ان میں سے کسی ایک کی اپنی جگہ پر درست طور پر لحاظ نہ رکھے تو اس کی نجات کی کشتی بہنور میں پھنس جائے گی کر پار



نہیں سکے گی، مطلوبہ ساحل (ہمیشہ کی سعادت) تک پہنچنے سے محروم  
رہے گا، اور دنیا و آخرت کا نقصان اٹھائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## سورة العصر

وَالْعَصْرِ ۝۱  
 اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝۲  
 اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝۳  
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴

### سورت کا ترجمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
وَالْعَصْرِ ۝۱	زمانے کی قسم!
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝۲	انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝۳ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۴	سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے

### سورت کی تفسیر

وَالْعَصْرِ	زمانے کی قسم!
-------------	---------------

زمانہ جو کہ انسانی زندگی کا سرمایہ، اور دو جہانوں کی سعادت کے حصول کے لیے کوششوں کا موقع ہے۔

مفسرین لکھتے ہیں "العصر" زمانہ، وقت، اس سے مراد انسانیت کی تاریخ ہے جو انسانی زندگی کا سرمایہ ہے، اور بے مقصد قسم کی زندگی گزارنے سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔

لفظ "العصر" کے متعدد تراجم اور تشریحات کی گئی ہیں، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اور تفسیر عصر کے وقت سے کی ہے، بعض مفسرین نے العصر کو زمانے سے تعبیر کیا ہے، خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے دور سے، اور اس طرح مفسرین نے اس لفظ کی مختلف تفاسیر اور تشریحات اور وضاحتیں کی، اگر ان مفسرین میں سے ہر ایک کے دلائل اور تشریحات کا تجزیہ اور جائزہ لیا جائے تو ان میں سے کسی نے بھی عصر کو مخصوص وقت اور مدت کے لیے مختص کرنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی، کہ کس تاویل سے ثابت کیا

جاسکتا ہے کہ "عصر کے وقت" سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔

لفظ "العصر" عام ہے، جسے خاص نہیں کرنا چاہیے، قسم اور اس کے جواب کا تعلق تب ہی دیکھا جاسکتا ہے جب ہم صیغے کو اپنے "عمومی" حال پر رکھیں، اسی طرح ہم اس سے کوئی بھی زمانہ اور زمانے کے نشیب و فراز کا معنی لے سکتے ہیں، زمانہ اس کے اور یہ مختلف نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ گواہی دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی بے ایمانی، برے عمل اور نامناسب کردار اور حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، "زمانے کی قسم" خدا تعالیٰ اس بنا پر زمانے کی قسم کھاتا ہے کہ زمانہ شب و روز کے گزرنے کا وقت، تاریکی اور روشنی کے پے در پے آنا، واقعات کی روشنی اور ظرف، زندگی کی مستقل مزاجی اور لوگوں کے مصالح اور منافع کی اپنی آغوش میں پرورش کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں صانع عزوجل کے وجود کی واضح دلیل ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا زمانے کی قسم کھانا زمانے کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے، اسی لیے حدیث شریف میں ہے: "لاتسبو الدهر، فإن الله هو الدهر" زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ خدا عزوجل خود زمانہ (کا خالق) ہے، یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرین نے العصر کی تفسیر: "صلاة وسطی" یعنی نماز عصر کے کئے ہیں، اس قسم کی تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو زندگی گزر چکی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی باقی ماندہ زندگی عصر اور مغرب کی نماز کے درمیانی وقت کی طرح ہے۔

اس لیے انسان کے لیے بے ضرر کاروبار میں مشغول ہونا ضروری ہے، کیونکہ آخری وقت قریب ہے، اور نقصانات کی تلافی ممکن نہیں، جبکہ "ابن کثیر" عالم اسلام کے مشہور مفسر نے پہلے مفہوم کو ترجیح دی ہے۔

انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

"الْإِنْسَانَ" اس سے مراد مکلف انسان ہے "خُسْرٍ" نقصان اور ضرر، حقیقت یہ ہے کہ: جو لوگ اپنی قیمتی عمر میں شیطان سے سودے بازی کرتے ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ (رجوع کریں: نمل/5، اعراف/178، شوری/45) اور جو لوگ اللہ سے تجارت کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (ملاحظہ فرمائیں: صف: ۱۰-۱۳)

پچھلی آیت کی قسم کا جواب یہ ہے کہ : یقیناً انسان خسارے میں ہے "خسر اور خسران" کاروباری نقصان، سرمایہ کا نقصان، یعنی : ہر وہ شخص جو تجارت، کاروبار اور مادی محنت میں لگا ہوا ہے، اور اپنی زندگی دنیاوی امور میں صرف کرتا ہے، تو ایسا آدمی حق کے نقصان اور گمراہی کی تباہی کا شکار ہے، اس حکم سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں درج ذیل آیت میں مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے :

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝
---	---

"تَوَاصَوْا" ایک دوسرے کو نصیحت کی، "الْحَقِّ" حق اور سچ۔

"الصَّبْرِ" صبر، ذکر خاص بعد از عام ہے، (مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے) یعنی : وہ مرد اور عورتیں جو اللہ پر ایمان اور عمل صالح کو باہم جمع رکھتے ہیں نفع میں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں، کیونکہ دنیاوی معاملات نے انہیں نیک اعمال سے غافل نہیں کیا، بلکہ اپنی آخرت کے لیے عمل کرتے رہے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، وہی حق ہے جس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ: اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور ان تمام چیزوں کو بجا لانا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، (سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی ہے)، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہنے میں صبر، اس کے فرائض کی ادائیگی میں صبر اور اس کے تکلیف دہ احکام پر صبر۔

لہذا صبر ان اچھی صفات میں سے ہے جس کی مؤمنوں کو ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے، چونکہ صبر دوسری خوبیوں سے زیادہ اہم ہے اس کا درجہ بھی ان سے بلند ہے، نیز، چونکہ حق کے لیے کھڑے ہونے والوں میں سے بہت سے لوگوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے جس کا مقابلہ صبر سے ہی کیا جاسکتا ہے، چنانچہ صبر کی ضرورت، اہل ایمان کی واضح ضروریات میں سے ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں؛ "آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق ایک بھاری کام ہے کہ اس کے ساتھ مصائب و مشکلات وابستہ ہیں۔ اس لیے ہمارے رب نے اسے ایک دوسرے کو نصیحت کے ساتھ اور نصیحت کو صبر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔"

## عمل صالح کا قرآنی تصور

عمل صالح کا مطلب وہ کام ہے جو صحیح اور اچھا ہو، اسی طرح جہاں دو لوگوں میں اختلاف ہو تو اس اختلاف کو دور کرنا، اور دشمنی کو ختم کروانا یہ بھی عمل صالح ہے اس کے علاوہ نیک عمل سے مراد کوئی بھی صحیح اور نیک عمل ہو، جس کی بہت سی مثالیں ہیں قرآن کریم میں -

اگر ہم اسلام کو دو اہم اور بنیادی اجزا میں بیان کرنا اور منحصر کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک عمل صالح ہو گا، اس لیے کہ اسلام ایمان دو اہم اجزا حق اور عمل صالح پر قائم ہے۔

مسلمان اور مؤمن وہ شخص ہے جو اپنے دل میں حق پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اور اچھے اعمال انجام دیتا ہے، لہذا توحید پرستی اور عمل صالح کو انسانیت کی پرواز کے دوبازو سمجھا جاتا ہے، قرآن کریم ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی اونچا مقام دلانے والے کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ (سورہ فاطر ۱۰)

نجات پانے والے اور فلاح پانے والے صرف وہی ہیں جو ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو اصل سرمایہ میں نقصان کیے ہوئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ (سورہ عصر کی آیت: ۲ اور ۳)۔

سوال یہ ہے کہ قرآن نے کن امور مثالوں کو اعمال صالحہ قرار دیا ہے، اور ان کی طرف توجہ دینے اور اہتمام کرنے کا کہا ہے؟ قرآن کریم میں اعمال صالحہ کی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

سورہ توبہ آیت: "۱۲۰ اور ۱۲۱" کلی اور جزی طور پر عمل صالح کی انجام دہی میں انہیں خدا کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اسی طرح جو وہ خرچ کرتے ہیں کم یا زیادہ یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب ان کے لیے (اعمال صالحہ) میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

ان آیات میں متعدد صورتیں بیان کی گئی ہیں جو عمل صالح کی عمومی اور جزوی مثالیں ہیں، ان سب میں وہ کونسی بنیادی اور کلیدی شرط ہے، کہ اللہ کی راہ میں ہونا نیکی اور عمل صالح ہے؟

اگر انفاق، سخاوت تھوڑی یا بہت ہو جائے، یا سختی اور مصیبتیں برداشت کی جائیں، اور دوسرے نیک کام انجام دیے، کہ جن میں مثبت ارادہ نہ ہو تو اس

طرح کے نیک کام اس بندے کے اس شخص جیسے ہیں کہ جو ایک پر کے ساتھ اڑنا چاہتا ہے، کہ ایسا کام ناممکن اور نہ ہونے والا ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان بھی انسان کے لیے کار آمد نہیں ہوتا، قرآن کریم کی آیات میں ہر جگہ دونوں کی شرطیت کی طرف اشارہ ہوا ہے، جب بھی دوزخ کی آگ سے نجات اور فلاح کی بات ہوگی تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی طرف اشارہ ہوگا، "۷۰" سے زائد آیات میں اس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ان دونوں (ایمان اور عمل صالح) کے حصول کے بغیر نجات کا تصور نہیں ہوگا، اس کے علاوہ یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ سچے مؤمن وہ ہیں جو نہ صرف خود ایسے ہوں، بلکہ دوسروں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلائیں، درحقیقت اس آیت میں اسلام کے معاشرتی پہلو پر زور دیا گیا ہے، ایک لحاظ سے اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف فرد کی نجات کا خیال رکھتا ہے، بلکہ معاشرے کی نجات بھی اس کے اہم ترین مقاصد اور اہداف میں سے ایک ہے، اسی لیے قرآن میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اعمال صالحہ میں شمار کیا گیا ہے۔

قرآن کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ اسلام نہ صرف افراد بلکہ انسانی معاشروں کو بچانے کا سوچتا ہے، فرد کی آزادی اور نجات ضروری ہے، لیکن یہ مقصد ایک صالح معاشرہ اور صالح قوم فراہم کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص اپنا خیال رکھتا ہے اور معاشرے پر توجہ نہیں دیتا تو وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستقبل میں کسی مشکل میں نہیں پڑے گا، فرد کی آزادی، خاص طور پر آج کے دور میں، معاشرے کی نجات اور آزادی پر منحصر ہے۔

### خسران میں جنات بھی شامل ہیں

سورہ "عصر" میں اور اسی طرح احادیث نبویؐ کی ایک کثیر تعداد میں، بنی آدم خصوصاً مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے؛ کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، جبکہ مذکورہ روایات میں عورتوں اور جنوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ: نقصان کے بارے میں رب کا خطاب، جو سورۃ العصر میں ہے، اس خسران میں مرد اور عورتیں، یہاں تک کہ جنات بھی شامل ہوں گے، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو مردوں، عورتوں اور جنوں تمام مکلفین کے لئے نازل کیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "النساء شقائق الرجال" (رواہ احمد) معنی یہ ہے کہ عورتیں دین کے معاملات میں مردوں کی طرح ہیں، سوائے ان مسائل کے جن میں اسلام نے مرد اور عورتوں کے لئے فرق رکھا ہے، اور ان کا الگ الگ تعین کیا ہے، جیسے کہ گواہی اور وراثت کے مسائل وغیرہ، قرآنی آیات میں کچھ صفات ایسی بھی ہیں کہ ان میں مؤمن

اور کافر دونوں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" ترجمہ: "پس جنات بھی انسانوں کی طرح عبادت کے مکلف ہیں"

سورہ عصر کی یہ آیت عموم کا معنی دیتی ہے، یعنی جن اور انسان دونوں بربادی اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔

### جنت کا راستہ

جنت تک پہنچنے کے لیے ایک مسلمان مؤمن کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، شرعی حکم یہ ہے کہ خواہشات نفس کی مخالفت سے جنت کا راستہ حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر اس کے لیے مضبوط ارادہ اور فیصلہ کی ضرورت ہے۔

بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "حجبت النار بالشہوات، وحجبت الجنة بالبر" (جامع الاصول: (521/10) نمبر 8069).

ترجمہ: جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔"

سنن نسائی اور ترمذی میں بھی ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اَذْهَبْ فَاَنْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا اَحَدٌ اِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا جَبْرِيْلُ اذْهَبْ فَاَنْظُرْ اِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ" (جامع الاصول: (520/10) نمبر 8068).

(جاؤ جنت میں دیکھو جو کچھ میں نے مؤمنوں کے لیے تیار کیا ہے، جبرائیلؑ گئے جنت اور اس کی تمام سہولیات کو دیکھا اور پھر واپس آکر کہا: اے رب مجھے تیری عظمت و بزرگی کی قسم، جو ان نعمتوں کے بارے میں سنے گا، وہ اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت کو مصیبتوں سے گھیر لیا جائے، اور جبرائیلؑ کو حکم دیا کہ جا کر دیکھو کہ میں نے جنتی لوگوں کے لیے کیا تیار کیا ہے، جبرائیلؑ گئے اور واپس آکر کہا: اے رب! مجھے تیری عظمت اور بزرگی کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔

امام نووی نے شرح مسلم میں پہلی حدیث کی تشریح اس طرح کی ہے: یہ تمثیل بہت خوبصورت ہے اور یہ رسول اللہ ﷺ کے کلام کی فصاحت و بلاغت کو ظاہر کرتی ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک

کہ وہ کام نہ کرے جو اس کی طبیعت کے مطابق مشکل اور ناخوشگوار ہیں ، اور جب تک وہ نا جائز لذتوں کو قربان نہ کرے، جہنم سے نہیں بچ سکتے گا، ہاں! جنت اور جہنم خواہشات اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، جو پردوں اور رکاوٹوں سے گزرے گا وہ محبوب تک پہنچے گا، جنت کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطلب ہے مشکلات کا سامنا کرنا، جہنم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا مطلب ہے لذتوں سے اجتناب کرنا۔

### مکارہ اور مشکلات سے مراد کیا ہے؟:

عبادت میں کوشش کرنا، اور اس پر مکمل توجہ دینا، دین کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر و استقامت، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، حق کی تلقین کرنا، اور اللہ کی طرف بلانا، اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، غصے کو دفع کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور صدقہ دینا، اس شخص کے ساتھ نیکی کرنا جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، اور خواہشات کے مقابلے میں صبر کرنا وغیرہ۔ (شرح نووی علی مسلم: 165/ 17)

### مدعیان نبوت

محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ صحیح تعداد تو دستیاب نہیں ہے، لیکن صحیح احادیث نبوی ﷺ میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلَّهُمْ يُرْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ" (بخاری: ۳۶۰۹)، (قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تقریباً تیس جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں، جو سب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے) سنن ابی داؤد اور ترمذی میں، ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلَّهُمْ يُرْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي" (سنن ابی داؤد: ۴۲۵۲)

**ترجمہ:** "میری امت میں عنقریب تیس جھوٹے (دعویدار) نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے"۔

پہلا شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ مسیلمہ کذاب تھا جسے بعد میں مسلمانوں نے قتل کر دیا۔

### صدر اسلام میں جھوٹے دعویدار ان نبوت

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں، بعض اشخاص اکٹھے ہوئے اور خود کو نبوت کے دعویدار قرار دیا، ان میں سے چند لوگ اپنے لئے پیروکار تلاش نہ کر سکے، مشہور و معروف اشخاص میں سے: مسیلمہ بن ثمامہ کا ذکر کر سکتے ہیں جو اپنے پروپیگنڈے میں خود کو نبوت میں رسول اللہ ﷺ کا



شریک مانتا تھا، اور عیسیٰ اور طلیحہ بن خویلد وغیرہ، ان میں سے ہر ایک اپنے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کرنے لگاتھا۔

### مسيلم بن ثمامہ

مسيلم بن ثمامہ جو کہ ابا ثمامہ کے کنیت سے بھی مشہور تھا، (۱) ایک دن اپنے کچھ پیروکاروں کے ساتھ نبی ﷺ کے پاس گئے اور پیارے نبی کریم ﷺ سے کہا:

(۲) اگر اس طرح منصوبہ بنا لو کہ آپ کے بعد تمام کام میرے سپرد ہو جائیں (یعنی میں آپ کا جانشین بن جاؤں) تو آپ کی پیروی کر لوں گا، پیغمبر ﷺ نے اس کی طرف رخ مبارک کر دیا آپ ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی، فرمایا: اگر مجھ سے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مانگو تو میں یہ بھی نہیں دوں گا، اپنے کام میں اس چیز سے دشمنی نہ کرو، جسے خدا نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے، اگر تم منہ موڑ لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نسل ختم کرے گا، اور میں تجھے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا خواب میں دیکھا تھا۔

وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس بحث و مباحثہ کے بعد اپنے قبیلے کی طرف گیا اور قبیلے والوں کے پاس پہنچنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کہا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ اس کی نبوت میں شریک ہوں۔

(۴) یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے پیغمبر السلام کی نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی طرح اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا تھا، اور کہتا تھا: "کہ میں اور محمد دونوں نبوت کے کام میں شریک ہیں" سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ: کچھ مدت گزرنے کے بعد مسيلم اس قابل ہو گیا کہ چند آدمیوں کو اپنے اردگرد جمع کر لے، اس نے پیغمبر ﷺ کو مندرجہ ذیل مضمون کا ایک خط لکھا: "مسيلم خدا کے پیغمبر کی طرف سے محمد خدا کے پیغمبر کی طرف، آپ پر سلام ہو یہ کہ میں (نبوت کے معاملے میں) آپ کا شریک ہوں، اور آدھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش تجاوز کر رہے ہیں" جب یہ خط رسول اللہ ﷺ کو پہنچا تو آپ ﷺ نے ان کا خط پڑھ کر درج ذیل عنوان کے ساتھ جواب بھیجا: "محمد خدا کے نبی سے مسيلم جھوٹے کی طرف، سلام ہو اس پر جو نجات کا راستہ اختیار کرتا ہے، اما بعد زمین خدا کی ہے، جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور آخر انجام متقیوں کا ہے" (۵) (۴/۶)۔

مؤرخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر ﷺ "حبیب بن زہد" نامی ایک شخص کو مسيلم کی طرف بھیجا، مسيلم نے رسول خدا کے قاصد سے کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ حبیب نے کہا: جی ہاں، مسيلم نے پوچھا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ حبیب نے کہا: میں گونگا بہرا ہوں، ان الفاظ کا کئی بار تبادلہ ہوا، یہاں تک کہ مسيلم نے ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کاٹے اور وہ شہید ہو گئے (۷/۶)۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ ﷺ کے دو اصحاب کو پکڑ لیا، اور ان میں سے ایک سے کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر پوچھا: کیا تم میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس کو چھوڑ دیا، پھر اس نے دوسرے کو طلب کیا اور پوچھا: کیا تم محمد ﷺ کے رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں! کہا تم میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ -

اس نے جواب دیا: کہ میں گونگا بہرا ہوں،.. اور وہ شہید ہو گیا: مسیلمہ کذاب رسول اللہ ﷺ کے احکامات کے بعد دعویٰ کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی غیر موجودگی میں صرف وہی موجودہ پیغمبر ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ میری اطاعت اور مدد کریں (۷)۔

با الاخر، جب خلیفہ اول نے مسیلمہ کا خطرہ سنگین دیکھا تو اس کے خلاف لڑنے کے لیے کئی لشکر جمع کیے اور ان کے درمیان کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی، آخر کار خالد بن ولید کی کمان میں ایک سخت جنگ میں مسیلمہ مارا گیا، (۹)

**حوالہ جات:**

- 1 - زرکلی، خیر الدین، الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین)، جلد 7، صفحہ 226، دار العلم للملایین، بیروت، طبع ہشتم، 1989م.
- 2 - بعض اقتسابات میں یہ ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس نہیں گیا تھا، دوسروں نے اس سے نقل کیا، تو پیغمبر نے جواب دیا، (الاعم)، ج: ۷، ص: ۲۲۶)
- 3 - بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، محقق: الناصر، محمد زہیر بن ناصر، ج 4، ص 203، دار طوق النجاة، طبع اول، 1422ق.
- 4 - مقریزی، تقی الدین، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، ج 14، ص 229، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1420ق.
- 5 - اعراف، 128: "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ"
- 6 - طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوك، تحقیق: محمد أبو الفضل ابراہیم، ج 3، ص 146، دار التراث، بیروت، طبع دوم، 1387ق.

- 7 - عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: بجاوى، على محمد، ج 1، ص 320، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، 1412 ق، ابن اثير جزرى، عز الدين أبو الحسن، أسد الغابة في معرفة الصحابة، جلد 1، صفحه 443، دار الفكر، بيروت، 1409 ق.
- 8 - البداية والنهاية، جلد 6، صفحه 341.
- 9 - ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر)، تحقيق: خليل شحادة، ج 2، ص 502، دار الفكر، بيروت، طبع دوم، 1408 ق.

## صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**